

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ
13 جولائی 2020

کووڈ 19 کی وجہ سے محدود ہوتے ملازمت کی منڈی میں روزگار کا امکان جامعہ میں ہوگا ' آن لائن سمر اسکول آن جاب ریڈینس ' کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی یونیورسٹی پلیسمنٹ سیل 16 جولائی تا 24 جولائی 2020ء کو ایک ہفتہ طویل "آن لائن سمر اسکول آن جاب ریڈینس" کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد کووڈ 19 کی وجہ سے سکڑتے ملازمت کی منڈی میں روزگار کے مواقع کے لئے طلباء کو تیار کرنا اور اس کے امکان سے انہیں روش ناس کرانا ہے۔ اس پروگرام کا افتتاح 16 جولائی 2020 کو سہ پہر 3 بجے گوگل میٹ سے ہوگا۔

افتتاحی اجلاس میں مسٹر انیس خان ، گلوبل بزنس ہیڈ ، ڈبلیو پی آر او لمیٹڈ ، برطانیہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ وہ "عالمی معیشت کے تبدیل ہوتے منظر نامے اور مستقبل کے امکانات " پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ اس اجلاس کی صدارت کریں گی۔

اس سمر اسکول کا انعقاد وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسر نجمہ اختر کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے یونیورسٹی کے مختلف کورسوں کے طلباء ملازمتوں کے امکان اور اس کے حصول کے طریقہ کار سے واقف ہو سکیں گے۔

اس میں طلباء اپنا محاسبہ کیسے کریں ، شخصیت کی نشوونما کیسے ہو ، مواصلات اور پیش کش کی مہارت کیسے پیدا کی جائے ، گروپ ڈسکشنز کیسے کیا جاتا ہے ، اپنا ہدف کس طرح متعین کرتے ہیں ، ٹیم ورک کیا ہوتی ہے ، تحریری عمل کو موثر کیسے بنایا جا سکتا ہے ، کریکنگ انٹرویوز کیسے ہوتے ہیں جیسے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اس سے طلبہ کو ملازمتوں کے لیے نہ صرف مجموعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد ملے گی بلکہ موجودہ صورتحال میں اسے کیسے اپنے حق میں استعمال کیا جائے ، اس بارے میں بھی وہ جان سکیں گے۔ پروگرام کی تکمیل کے بعد شریک ہونے والے تمام ہی افراد کو ای سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔

مقررین میں مسٹر ذوبیب ٹی خان ، سی ای او ، اپی جے سٹیہ اینڈ سورن گروپ ، مسٹر دیویش دھون ، گلوبل سی پی بزنس لیڈ ، دیجیو ، مسٹر شیرف الرحمن ، ریجنل سورسنگ مینیجر - یورپ ، یورپ ، مڈل ایسٹ نارٹھ افریقہ ، نیسلے شامل ہیں ، مسٹر سمیر شرما۔ ہیڈ مارکیٹنگ ، ڈیجیٹل اینڈ آف لائن ، انڈاسپریٹ گروپ ، محترمہ روپا ایچ شرما ، دے۔ سینئر مینیجر - امپلانی کاؤنسلنگ ، دبی الیکٹریسیٹی اینڈ واٹر اتھارٹی (ڈی ای ڈبلیو اے) ، مسٹر کرن سکھو جا ، سینئر پروڈکٹ مینیجر ، فوربس ڈاٹ کام ، محترمہ روحی دھر ، کارپوریٹ ٹرینر ، مسٹر سنجے بکسکلا ، سابق سینئر وی پی - ایچ آر ، ڈی ایل ایف لمیٹڈ ، محترمہ ریتیکا سبھاش ، ڈائریکٹر آف اسکول انڈین سب کان ٹی نینٹ ، منگا ہائی ڈاٹ کام ، مسٹر ندیم حسن ، ٹیلنٹ ڈویلپمنٹ اسپیشلسٹ ، دبی ، مسٹر راجمل گپتا ، ڈالما گروپ ، ڈائریکٹر ایچ آر ، مسٹر جمال شاہ ، کارپوریٹ ٹرینر ، پروفیسر نوشاد ایچ۔ مولک ، پروفیسر شاہد اختر ، پروفیسر نشاط حیدر اور پروفیسر ریحان خان سوری وغیرہ شامل ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنا صدی سال منا رہی ہے اور حال ہی میں ایم ایچ آر ڈی ، این آئی آر ایف کے ذریعہ رینکنگ میں ملک کی 10 اعلیٰ یونیورسٹیوں کی فہرست میں داخل ہو گئی ہے۔ کواکواریلی سیمینٹز (کیو ایس) ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے مطابق ، جامعہ پوری دنیا کی 751-800 یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ یونیورسٹی کے آغاز سے ہی یونیورسٹی پلیسمنٹ سیل طلباء کے کیریئر میں اضافے کے لئے مستقل جدوجہد کر رہی ہے۔

احمد عظیم

پی ار او -میڈیا کوارڈینیٹر